

گھر سے باہر کھیلنے کے فوائد

جب بچے گھر سے باہر کھیلتے ہیں تو، ان کی صحت اور ذہنی بہبود کے لیے بے شمار ممکنہ فوائد موجود ہوتے ہیں۔



زیادہ محنت والا کھیل




بہتر سماجی
اہلیتیں



بابمی تعاون میں
اضافہ



مسئلہ کو حل کرنے
میں بہتری



جذباتی مشکلات میں
کمی



بہتر رویہ



بہتر خود انضباطی



مسرت میں اضافہ

The opinions and interpretations in this publication are those of the author and do not necessarily reflect those of the Government of Canada.